

ادارہ

افکار و تاثرات بنام مدیر

مولانا سید محمد کفیل شاہ بخاری: آپ کے حسب ارشاد، حضرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاریؒ کی وہ تقریر جو انہوں نے دارالعلوم حقانیہ میں کی، ارسال خدمت ہے میرے پاس ایک ہی کاپی موجود تھی، اس کی فوٹو سٹیٹ کرا کر بھیج رہا ہوں۔ ایک درخواست میں نے بھی پیش کی تھی مگر عرض ہے کہ حضرت امیر شریعت کے دو مخطوط کا تذکرہ ”مشاہیر“ میں موجود ہے اگر ان کے اصل رسم الخط کا عکس عنایت فرمادیں تو ممنون ہوں گا۔ اسی طرح جانشین امیر شریعت حضرت مولانا سید ابو ذر بخاریؒ کے خط کا تذکرہ بھی پڑھا ہے۔ اگر اس کی بھی اصل کاپی کا عکس مل جائے مہربانی ہوگی۔ ظاہر بات ہے کہ آپ کی قومی مصروفیات میں سے اس کام کے لئے وقت نکالنا مشکل ضرور ہے لیکن کسی عزیز کو حکم فرمادیں تو ہر کام آسانی سے ہو جائے گا اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت سے نوازیں۔ آمین

محمد اشرف علی مروت..... ڈپٹی کمشنر انکم فیکس: ۱۱/ اگست اکتوبر کے شمارے پڑھے۔ ماشاء اللہ بڑا اچھا تبصرہ کیا ہے نقش آغاز کیا ہے معلومات تبصرہ تاریخ، علمی حقائق اور انبیاء المصلوۃ والسلام کے متعلق کافی معلومات قلم کے سپرد کئے ہیں۔ اسی طرح شہر کراچی میں دینی مدارس پر یلغار نے ایک ذی ہوش مسلمان کی آنکھیں کھول دیں ہیں۔ مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب اور مولانا قاری محمد عمر حقانی اس باغ و چمن کے وہ درخشندہ مہکتے پھول ہیں۔ جنگی تروتازگی اور خوشبو ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ حضرت استاد العلماء مولانا عبدالحقؒ کی دعائیں اور برکات اب بھی سینے میں ہیں..... جناب شیخ الحدیث عبدالحق صاحب کا بستر علالت پر ہسپتال میں معالج ڈاکٹروں سے خطاب ”ضبط و تحریر پر قاری عمر علی صاحب کی تحریر ہیرے جواہرات سے تولنے اور آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ اسی طرح ”عہد طالب علمی میں مولانا سمیع الحق مدظلہ کے علمی منتخبات“ قسط (۱۳) اپنی مثال آپ ہے علمی اور قلمی دنیا حیران ہے کہ 23-24 سال کا ایک نوجوان عالم کاسلیقہ انتخاب، کلام، انداز گفتگو علمی اور دینی باتوں نے ”الحق“ کو چار چاند لگا دیئے ہیں۔ براہ کرم اس لعل جواہر کو محفوظ کریں اور عملاً ایک کتابی شکل دیکر شائع فرمادیں، قارئین کو انشاء اللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ چلتے چلتے یہ بے جا نہ ہوگا کہ مولانا سمیع الحق جب قلم اٹھاتا ہے تو ”اردودان طبقہ“ بھی انگشت بند انداز رہتا ہے۔ ان کے استفادے سے تشبیہات اور الفاظ کا چناؤ کا نرالا ڈھنگ ہے ”مکتبہ خضریٰ کے سائے میں“ غالباً 23 سال کی عمر میں تحریر کیا تھا۔ جسکو اب بھی بہت سے شوق، جذبے اور علمی مرتبے سے پڑھتے ہیں۔ اللہ پاک مولانا کی عمر، ایمان، صحت میں برکت عطا فرمائیں۔